

# Proxy Form

I/we \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_

being a Member of Reliance Insurance Company Limited holding \_\_\_\_\_ ordinary shares, HEREBY

APPOINT \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ another member of the Company, failing  
him/her \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ as my/our proxy in my/our absence to

attend and to vote and act for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held on

Wednesday 30 April, 2025 and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand(s) this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2025.

(Signature of Witness 1)

(Signature of Witness 2)

Revenue Stamp

Name of Witness: \_\_\_\_\_

Name of Witness: \_\_\_\_\_

CNIC

[illegible]

CNIC

[illegible]

Address: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

(Name in Block Letters)

Folio No. \_\_\_\_\_

Signature of Shareholder

Notes:

1. The Member is requested:
  - (a) To affix Revenue stamp at the place indicated above;
  - (b) To sign in the same style of signature as is registered with the company.
  - (c) To write down his/her Folio Number .
2. For the appointment of the above proxy to be valid this instrument of proxy must be received at the Head office at 181-A, Reliance Insurance House, Sindhi Muslim Cooperative Housing Society Karachi at least 48 hours before the time fixed for the Meeting.
3. Any alteration made in this instrument of proxy should be initiated by the person who signs it.
4. In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote whether in person or by the proxy will be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders, and for this purpose seniority will be determined by the order in which the names stand in the Register of Members.
5. The Proxy must be a Member of the Company.

For CDC Account Holders / Corporate Entities

In addition to the above, the following requirements have to be met:

- (i) The proxy form must be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- (ii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and of the Proxy must be furnished with the proxy.
- (iii) In case of corporate entities, the Board of Directors' resolution/power of attorney and specimen signature must be submitted (Unless it has been provided earlier) along with proxy forms.

# مختار نامہ (پراکسی فارم)

میں / ہم \_\_\_\_\_ (نام) \_\_\_\_\_ برائے \_\_\_\_\_ (پتہ)

تحقیق شراکت دار ریلائنس انشورنس کمپنی لمیٹڈ موجودہ حصص

آرڈری حصص بطور شیر ذلت قری کرتا / کرتی ہوں / کرتے ہیں \_\_\_\_\_ (نام) \_\_\_\_\_ برائے \_\_\_\_\_ (پتہ)

میری / ہماری پراکسی کے طور پر میری / ہماری جانب سے کمپنی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کی، جو بروز بدھ، مورخہ 30 اپریل 2025 کو منعقد ہوگی۔ اس میں کوئی تبدیلی لائی جائے۔

میرے / ہمارے طرف سے گواہان برطانیہ \_\_\_\_\_ مورخہ \_\_\_\_\_ 2025

(ریونیوٹ چسپاں کر کے  
اس پر دستخط کریں)

گواہ کے دستخط - ۲

گواہ کے دستخط

گواہ کا نام

گواہ کا نام

شناختی کارڈ نمبر

شناختی کارڈ نمبر

پتہ

پتہ

شراکت دار کا نام

جلی حروف میں نام

فولیو نمبر:

## اہم نکات:

- ۱۔ شراکت داروں سے التماس ہے کہ:  
(ا) اوپر بتائی گئی جگہ پر ریونیوٹ چسپاں کریں  
(ب) کمپنی میں رجسٹرڈ کرائے ہوئے دستخط استعمال کریں  
(ج) اپنا فولیو نمبر درج کریں
- ۲۔ میٹنگ سے ۴۸ گھنٹے قبل پراکسی کا یہ فارم جو ہر لحاظ سے مکمل اور دستخط شدہ ہو کمپنی کے ہیڈ آفس بمقام 181/A ریلائنس انشورنس ہاؤس سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کراچی میں جمع کر دیا جائے۔
- ۳۔ کوائف میں کسی بھی قسم کی ترمیم کی صورت میں شراکت دار کے دستخط لازمی ہیں۔
- ۴۔ یہ فارم ممبر یا اس کے انٹرنیٹ کی جانب سے جسے تحریری طور پر اختیار انزڈ کیا گیا ہو، کی جانب سے دستخط کیا جائے، اگر ممبر کوئی کارپوریشن ہے تو اس کی عام ممبر موجود ہونی چاہیے۔
- ۵۔ ایسا ممبر جو میٹنگ میں شمولیت اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ کسی دوسرے ممبر کو اپنے اپنی پراکسی کے طور پر میٹنگ میں شمولیت اور ووٹ دینے کیلئے نامزد کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں کارپوریشن ایسے شخص کو نامزد کر سکتی ہے جو ممبر نہ ہو۔

برائے CDC اکاؤنٹ ہولڈرز / کارپوریٹ ادارے:

مزید براں درج ذیل شرائط کو پورا کیا جائے:

- (i) پراکسی کیلئے وہ لوگوں نے گواہی دی ہو جن کے نام، پتہ اور شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر فارم پر درج ہوں۔
  - (ii) پراکسی فارم کے ہمراہ مالکان کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل بھی دی جائے۔
  - (iii) پراکسی کو اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ میٹنگ کے وقت دکھانا ہوگا۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع دستخط کے نمونے پراکسی فارم کے ہمراہ (اگر پہلے جمع نہ کرایا ہو) کمپنی میں جمع کرانی ہوگی۔